

رسائل و مسائل

العامی بانڈس

سوال۔ آج کل حکومت کی طرف سے امدادی قرضوں کے تمککات جو العامی بانڈس کی شکل میں جاری کیے گئے ہیں، ان میں شرکت کرنا اور ان پر متوقع انعام کا حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بظاہر لوگوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ قمار نہیں کیوں کہ ہر شخص کی قرض کی اصل رقم ہیرا محفوظ ہے جو بعد میں ملے گی۔ اس پر کوئی متعین شرح سے اضافہ بھی بانڈ ہولڈر کو نہیں ملتا جسے سود قرار دیا جاتے۔ براہ کرم اس کاروبار کی شرعی حیثیت کو واضح کیا جائے کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں خلیجان کا شکار ہیں۔

جواب۔ العامی بانڈس کے معاملہ میں صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بانڈس بھی اسی نوعیت کے قرضے ہیں جو حکومت اپنے مختلف کاموں میں لگانے کے لیے لوگوں سے لیتی ہے اور ان پر سود ادا کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے ہر وثیقہ دار کو اس کی دی ہوئی رقم پر فرداً فرداً سود دیا جاتا تھا، مگر اب جملہ رقم کا سود جمع کر کے اسے چند وثیقہ داروں کو بڑے بڑے ”انعامات“ کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اس امر کا فیصلہ کہ یہ ”انعامات“ کن کو دیئے جائیں قرعہ اندازی کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے، پہلے ہر وثیقہ دار کو سود کا لالچ دے کر اس سے قرض لیا جاتا تھا۔ اب اس کے بجائے ہر ایک کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ شاید ہزاروں روپے کا ”انعام“ تیرے ہی نام نکل آئے، اس لیے قسمت آزمائی کرے۔

یہ صورت واقعہ صاف بتاتی ہے کہ اس میں سود بھی ہے، اور رورج قمار بھی۔ جو شخص یہ وثائق